




عثمان پبلک اسکول سٹم

معملہ ۷ میازہ بیگنیں پریز




Tarbiyah

تربیۃ

ماہنامہ مئی

20
24





مسی 2024 شوال / ذی القعده ۱۴۲۵ھ

Monthly e-Mag for lifelong learning & holistic development

- * فہم القرآن
- * فہم الحدیث
- * سیرت نبوی
- * تعلیم و تربیت
- * شخصیت
- * انزویز
- * تعمیر شخصیت
- * کیری کونسل
- * طب و صحت
- * اقبالیات
- * گوشہ عثایین
- * اقدار
- * رہنمائے والدین
- * سائنس و تکنالوژی
- * تعارف کتاب
- * تاریخ

القرآن

صبراً و نماز سے مدد لو۔

(۴۵) بارہت، آیت

الحدیث

آپ ﷺ نے فرمایا: اگر تمہارے گھر کے سامنے کوئی نہر بیٹھ ہو تو تم میں سے کوئی ہر روز پانچ باراں میں غسل کر کے تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل کچل بقیٰ بچے گا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا۔“ نہیں! اس کے بدن پر کوئی میل نہیں ہو گی۔“ آپ ﷺ نے فرمایا: یہی مثالاں پانچ نمازوں کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے گناہوں کو منادیتا ہے۔

(صحیح البخاری)

ماشاء اللہ آپ کے بچے نے نمایاں نمبر حاصل کر کے کامیابی حاصل کر لی اور اب اگلی جماعت میں داخل ہو کر ایک اور سیڑھی پر قدم جا چکا ہے۔ لیکن کیا یہ کافی ہے؟ امتحانات کے ساتھ ہی رمضان کا وہ بارکت مہینہ آیا کہ جس میں ہم سب نے ہر لمحہ تربیت اور تقویٰ کی کسوٹی سے گزر کر بالآخر انعام میں عید الفطر پائی۔ لیکن کیا یہ کافی ہے؟ اور کچھ ہی روز بعد ایک اور جانچ کا موقع عید قرباں کی صورت میں ہمارا منتظر ہے جس میں ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت تومند جانور سنت ابراہیم کوتازہ کرتے ہوئے قرباں کیے جائیں گے۔ لیکن کیا یہ کافی ہے؟ ایک لمحہ کو ٹھہریں اور سوچیں کیا ان سب سے گزر کر ہم اور ہمارے بچے کیا اپنے اس مقصد و منزل کے حصول میں بھی کامیاب ہو سکے کہ جس کے لیے ہمیں اس دار الامتحان میں بھیجا گیا ہے؟ آئیے۔ ذرا ہم ان سب کا ایک دوسرا زاویے سے جائزہ لیتے ہیں۔ امتحانات میں کامیابی دراصل ایک امتحان سے دوسرا امتحان تک مزید محنت، توجہ اور لگن مانگتی ہے۔ یہ کامیابی سمجھاتی ہے کہ اگلی سیڑھی پر چڑھ جانے کے بعد آگے سال کے گیارہ ماہ درپیش مشکلات سے نہ لڑ سکے یا کہیں ذرا بھی کمزوری و دکھائی تو ڈگمگا کر گر بھی سکتے ہیں یعنی اب اس کامیابی کی حفاظت بھی کرنی ہے اور مزید محاط ہو کر اوپر بھی چڑھنا ہے۔ اسی طرح ماہ رمضان کی خوبصورت ساعتیں اور لیل و نہار کی عبادات ہر قلب سلیم کو منور و معطر کر دیتی ہیں لیکن یہی ماہ ہمیں یہ پیغام بھی دیتا ہے کہ جس طرح آپ نے روزے کی حالت میں صرف رب کی خوشنودی کی خاطر اپنی مرضی کی ہر چیز چھوڑ دی اسی طرح سال کے گیارہ ماہ بھی اسی رب عظیم کی خوشنودی کے لیے ہر اس چیز کو چھوڑ دیا جائے جس سے اس کی ناراضگی کا ندیشہ ہوتا ہو اور یہ تقویٰ محس ایک ماہ کا نہ ہو بلکہ تاہیات ہوتا کہ اگلی منزل عید کی خوشی کی مانند ہو۔ عید قرباں کی آمد آمد ہے اور ساتھ ہی گرمیوں کی چھٹیاں بھی۔۔۔۔۔ قرباں کا وہ تصور جو ہمیں ابراہیم و اساعیل کے طرز عمل سے ملتا ہے اب مفتوح ہو تا جاہر ہے کہ قرباں کے جانور اب قرباں کے بجائے دکھانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں بچوں کو یہ تصور دینا ضروری ہے کہ یہ قرباں خود نمائی کے لیے نہیں بلکہ رب کے آگے خود سپردگی ہے یہ لازم ہے کی ہم خود کو اور اپنی نسلوں کو وہ بھولا ہوا سبق یاد دلائیں کہ جب رب کا حکم آجائے تو اپنی خوشی اور مرضی کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی، لاکھوں کا جانور قرباں کر کے اگر دل اس نیت سے خالی ہو تو بھلا اس عمل کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے، اسی لیے تورب کائنات نے اپنی کتاب میں فرمایا کہ: ”اللہ تعالیٰ کو قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے نہ ان کے خون بلکہ اسے تو تمہارے دل کی پر ہرگاری پہنچتی ہے اسی طرح اللہ نے جانوروں کو تمہارا مطعع کر دیا ہے کہ تم اس کی راہنمائی کے شکریے میں اس کے برادر ایساں بیان کرو، اور نیک لوگوں کو خوشخبری سنادیج ہے۔“⁽¹⁾

یک بعد دیگرے آنے والے تہوار و موافق ہمارے لیے اپنے اندر بے شمار اس باقی لیے ہوتے ہیں صرف دل کی آنکھوں سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ امتحانات ہوں یا رمضان، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہر ایک ہماری اصل منزل کا راستہ مزید واضح کرتا ہے اگر ان سب سے گزر کر بھی کوئی خود احتسابی کے عمل سے نہ گزرے اور اس کے روز و شب میں کوئی نمایاں تبدیلی نہ آئے تو بھلا وہ اصل کامیابی کیسے حاصل کر پائے گا؟ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم بحیثیت مسلم ان تربیتی ادوات سے گزر کر اطمینان سے رک نہ جائیں بلکہ ہر تربیتی و قفقہ ہماری منزل کی جانب رفتار کو مزید تیز کر دے۔

بقول شاعر مشرق۔۔۔۔۔

تیز تر کا مزن منزل مادر نیست



حی علی الصلوٰۃ۔ حی علی الفلاح

”منیب جلدی کرو۔۔۔ دیکھو بابا نکل رہے ہیں نماز کے لیے۔۔۔ کتنی بار سمجھایا ہے میٹا اذان ہوتے ہی وضو کر لیا کرو، احمد جلدی جاؤ بابا بلار ہے ہیں۔۔۔ منیب دیکھو اقامت شروع ہو گی۔۔۔ اب آپ کے ساتھ سختی ہو گی، بابا نکل چکے ہیں۔۔۔ اور اگر میاں گھر پر ناہوں تو پھر تو بار بار ایک ہی پکار۔۔۔ ”منیب اقامت کی آواز پر دھیان رکھنا یہاں۔۔۔ دیکھو اذان ہو چکی ہے۔۔۔ ہر نماز کے وقت ایک ہنگامہ اور چیخ و پکار اکثر مجھے پریشان کر دیتی تھی۔۔۔ الحمد للہ پندرہ بیس قدم کے فاصلے پر موجود مسجد سے ایسا تعلق استوار ہو چکا ہے کہ موزن تبدیل ہوں تو آواز سے پہچان لیے جاتے ہیں۔۔۔ کچھ عرصے پہلے منیب اکیلے نماز پڑھنے جانے لگا تو شروع میں اسکو نماز باجماعت اور مسجد کی مسلمانوں کی سماجی زندگی میں اہمیت بتلاتے ہوئے خود بھی کی فوائد سے آگاہی ہوئی۔۔۔ سب سے بڑی بات مسجد میں آنے والے حضرات اور آس پاس کی دکانوں کے گاہک و دکاندار بچوں کو پہچاننے لگے، جسکی بدولت خود بخوبیوں کی نقل و حرکت کی طرف سے فکر مندی کم ہوئی، ہمسایوں سے تعلق جواب ناپید ہوتا جا رہا ہے وہ پیدا ہوا، منیب میں بڑھتی ہوئی خود اعتمادی کہ اب وہ دکان سے سودا سلف بھی لے آتا ہے اور اپنی شخصیت پر بھروسہ مسجد سے واپسی کا مرہون منت ہے۔۔۔ نماز باجماعت بچوں کی زندگی میں کتنا ثابت کردار ادا کر گی، پتا ہی نہیں چلا۔۔۔ پرسوں رات جب عشاء کی نماز کے لیے اسی خوبصورت شور شرابے کے ساتھ میاں اور بچے گھر سے نکلے اور مسجد پر پڑے تالے کی وجہ سے پلٹ آئے تو جیسے ایک لمحے کے لیے ہر شے پر سکوت ساطاری ہو گیا! کسی نے مٹھی میں لے کر زور سے بھینچ لیا۔۔۔ الفاظ غم کی تربیتی کے قابل نہ ہے، زبان جیسے گنگ ہو گی۔۔۔ مادف ذہن کے ساتھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سلب ہو گی۔۔۔ پورا گھر اداسی میں ڈوب گیا۔۔۔ منیب جو کہ کبھی تاہل بھی بر تراہو تاختا ہے بھی خاموش اداں نگاہوں سے دیکھتا رہا فخر کے وقت نماز کی تیاری کے لیے میاں تیزی سے اٹھے تو موزن کے یہ الفاظ صلوٰۃ بیویو تکم“ (اپنے گھروں میں نماز ادا کرو) کانوں کے ذریعے دل کو چیرتے محسوس ہوئے۔۔۔ کافی دیر کت بے چین اداسی کے ساتھ ہم دونوں بستر پر خاموش بیٹھے رہ گئے، اس وقت آنسوؤں پر زور ناہا، صلوٰۃ بیویو تکم کے الفاظ کی گوئی آنسوؤں کی روائی کو بڑھاتی ہی رہی۔۔۔ دل ہلکا ہوا تو ذہن سوچنے سمجھنے کے قابل تو ہوا لیکن مختلف وسوسوں اور خیالات نے بری طرح گھیر لیا۔۔۔ میرے اللہ نے کیا ہمیں واپس لوٹا دیا؟ ہماری طرف سے رخ موڑ لیا؟ کہہ دیا جاؤ تمہاری عبادت اب قابل قبول نہیں رہی۔۔۔ تم امامت کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں ہو۔۔۔ تمہارے دلوں کی سختی نمازوں سے نرمی میں بدل سکتی۔۔۔ تم گونگے ہو بہرے ہو انہے ہو۔

دماغ کی ریگیں بے بسی سے پھر پھڑانے لگیں۔ دنیا کے مجموعی حالات اور اس میں بھیثیت مسلمان اپنا کردار اپنے خطرناک انجام کی طرف اشارہ کرتا محسوس ہوا۔۔۔ وہ ذمہ داری جس کا بوجھ پہاڑ پر پڑتا تو وہ ریزہ ہو جاتا۔۔۔ اس عظیم ذمہ داری سے اتنی غفلت اور اس درجے کو تھاں۔۔۔ باوجود اسکے کہ پورے قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کبھی ڈر اکر۔۔۔ فرعون والوں اور ان سے اگلوں کا طریقہ تھا کہ انھوں نے ہماری آیات کو جھلایا تو اللہ نے انکے گناہوں پر انکو پکڑا اور اللہ کا عذاب سخت ہے۔۔۔ (سورہ آل عمران)، تو کہیں بیمار سے کہا۔ کیا میں تمہیں دنیا سے بہتر چیز بتا دوں، پر ہمیرا گاروں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں یہاں عینکے نیچے نہیں روائی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔۔۔ (سورہ آل عمران)۔۔۔

ہماری ذمہ داری کا احساس بار بار دل رہا ہے۔۔۔ بارہ قرآن اس جزا کے دن کا وعدہ دھرا تا ہے۔۔۔ اس دن ہر نفس نے جو جہل کیا، حاضر پائے گا اور جو برآ کام کیا امید کرے گا کاش بھی میں اور اس میں دور کا فاصلہ ہوتا اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈر لتا ہے۔ اور اللہ بندوں پر مہربان ہے۔۔۔ (سورہ آل عمران)۔۔۔ بیشک میرا اللہ بندوں پر مہربان ہے۔۔۔ ہر نماز کے وقت اذان سے پہلے ہی دل ڈوبنا شروع ہو جاتا ہے ناچاہتے ہوئے کان“ صلوٰۃ بیویو تکم“ کے الفاظ سننا چاہتے ہیں۔۔۔ دل نہیں مانتا لیکن ضمیر چاہتا ہے شاید خود کو جگان۔۔۔ ان الفاظ کے ذریعے اس اضطرابی، ضمیر کو چھجوڑتی کیفیت کا شکار کرنا، تحریک پیدا کرنا، غلطات سے جگایا خود آگئی کے کرب سے آشنا کرنا۔۔۔ خاص کر سعودیہ میں رہتے ہوئے جب نماز کے سبب کاروبار زندگی کا معطل ہونا آپ کی مصروفیات کو کچھ وقت نماز کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔۔۔ ایک بے ربط اور غیر متوازن شب و روز کر بنا ک محسوس ہو رہے ہیں۔۔۔ لیکن میرا اللہ یہ بھی تو فرماتا ہے محبوب! تم فرمادو کہ لوگو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرمانبردار ہو جاو۔۔۔ اللہ تمہیں دوست رکھ کے گا اور تمہارے گناہ بخش دیگا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔۔۔ (آل عمران) رجوع کا طریقہ بھی بتا رہا ہے: رب سے دعا کرو گڑ کر اتے اور آہستہ۔۔۔ (سورہ الاعراف)؟ اے میرے اللہ ہمارے دل تیڑھے نہ کراس کے بعد کے تو نے ہمیں بدیلت دی۔۔۔ اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر پہنچ تو بڑا دینے والا ہے۔۔۔ (آل عمران)

اللہ فرماتا ہے: اے محبوب! جب تم سے میرے بندے مجھے پوچھیں تو بتا دیں نزدیک ہوں، دعا قول کرتا ہوں پکارنے والے کی جب مجھے پا رے۔۔۔ (سورہ البقرۃ)۔۔۔ تو بس اللہ میاں ہماری پکار سن لے۔۔۔ ہمیں پلٹا لے اپنی طرف، اپنے گھر کی طرف۔۔۔ مسجدوں کی رو قیں بجال کر دے میرے مولا۔۔۔ میرے گھر کے اس شور اور ہنگامے کو لوٹا دے جس سے کبھی میں پریشان ہو جاتی تھی لیکن اب میرے لیے بقاء رہو ہے۔۔۔ میرے پوچھوں کو مسجد کی طرف اٹھتے ہر قدم کی نیکیوں سے محروم نا کر۔۔۔ اے اللہ! تو رحیم ہے کریم ہے تو غفور ہے۔۔۔ تیری رحمت کا واسطہ ہمیں بار بار پلنے والا بنا، ہمارے گناہوں کو ڈھانپ لے۔۔۔ ہمیں اپنے اصل سے روشناس کروادے۔۔۔ خود سے تعلق کو تنا مصبوط بنادے جو حقیقی نصب ایں کو پانے کا ذریعہ بن جائے۔۔۔ ان شاء اللہ جلد“ صلوٰۃ بیویو تکم“ کے بجائے، ”حی علی الصلوٰۃ اور حی علی الفلاح“ کی صد مسجدوں سے بلند ہو گی اور ہر مسلمان اپنا اصل پہچان کر کر نئے عزم کے ساتھ اس پکار پر لبیک کہے گا۔

بڑے بچوں کو نماز کا عادی کیسے بنایا جائے؟

دشال کی عمر میں بچے کو بار بار نماز کی طرف متوجہ کرنا چاہیے۔ اگر بچے کی صحیح تربیت کرنا مقصود ہو تو پھر والدین کو چاہیے کہ وہ بچے کے لیے عملی نمونہ بنیں۔

اس مرحلے میں (دشال کی عمر کے بعد) والدین اور ہر اس شخص کے لیے جو اپنے بچوں کی تربیت چاہتا ہے، لازمی ہو جاتا ہے کہ وہ بچے کو وتر، سنن اور جماعت کے احکامات سکھائیں۔ جناب نبی کریم ﷺ نے حضرت انس بن مالکؓ کو صغير سنی میں ہی نماز استخارہ کی تعلیم دی تھی۔ اسی طرح اس مرحلے میں بالخصوص فجر اور عشاء کی نمازوں کا اہتمام ضروری ہے۔ پھر یہ بھی خیال رہے کہ ہر طرح کے حالات میں بچوں کو فرائض پر ہمیشہ اختیار کرنے کا عادی بنانا چاہیے، نہ کہ صرف امتحانات اور مشکل اوقات میں۔

نماز کی ترغیب دلانے کے طریقے

ماں اور باپ دونوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بچے کی حس نماز کو بیدار کھیں۔ **مگر کس طرح؟**

جب آپ کا پچھے عشاء سے قبل آپ سے سونے کی اجازت مانگے تو اسے پیار سے کہنا چاہیے کہ یہاں عشاء کی نماز میں تھوڑا ہی وقت رہ گیا ہے، ہم اکٹھے نماز پڑھیں، پھر آپ سو جائیے گا۔

جب وہ آپ سے کسی محفل یاد شتے داروں سے ملنے کے لیے جانے کا کہے اور نماز مغرب کا وقت قریب ہو تو پھر اسے سنا نا چاہیے کہ ہم پہلے نماز مغرب ادا کریں گے، پھر نکلیں گے۔

نماز کی حس بیدار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپ سے بار بار نماز کا ذکر کرنے، مثال کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں سے نمازِ عصر میں ملیں گے، یا یہ کہ فلاں نمازِ مغرب کے بعد ہم سے ملنے کے لیے آئیں گے۔

اسلام و رژش اور کھلیل کی ترغیب دلاتا ہے کہ اس سے بدن توانا اور مضبوط ہوتا ہے۔ مومن قوی اچھا اور اللہ کو زیادہ محبوب ہوتا ہے، جس طرح حدیث مبارکہ میں ہے ”الْمُوْمَنُ لِقَوْيٍ خَيْرٌ مِّنَ الْمُوْمَنِ الْمُسْعِفِ“، لیکن اس حوالے سے آپ اپنے بچے کو تلقین کریں کہ وہ کھلیل میں اتنا مشغول نہ ہو کہ نماز کی ادائیگی سے رہ جائے اس لیے کہ یہ فرض ہے۔

اگر دشال کی عمر کے بعد وہ بیمار ہو جائے تو پھر اسے حسبِ استطاعت نماز کی ادائیگی کی ترغیب دلائیے، یہاں تک کہ اسے معلوم ہو جائے کہ اس کے لیے ترک صلوٰۃ کا کوئی عذر نہیں ہے، اگرچہ وہ بیمار ہی کیوں نہ ہو۔

جب کبھی آپ سفر پر جائیں تو اپنے بچے کو نماز قصر اور جمع بین الصالاتین کے بارے میں ضرور بتائیے۔ اسے رخصتِ نماز کی نعمتِ الہی کا احساس دلائیں اور یہ کہ اسلام رحمت بھر دیں ہے۔

فرائض کی تعلیم کے بعد تدریجیاً سے نافل کی تعلیم دیجیے۔

اپنے بچے کو اس بات پر ابھاریے کہ وہ اپنے دوستوں کو نماز کی طرف بلائے۔ اس میں کوئی حرج نہیں کہ وہ اس کے لیے ٹیلی فون پر بات کرے کہ نماز کے وقت ہم مسجد میں ملیں گے۔ اسی طرح اس کو یہ بتایا جائے کہ نماز میں سستی کرنے والے دوستوں کا مذاق اڑانے کے بجائے انہیں نماز کی طرف بلانا چاہیے۔

گھروالے کو شش کریں کہ ہر جمعہ کو اس کے سسن کی ادائیگی کے لیے اپنے گھروالوں کے ساتھ کچھ دیر بیٹھیں جیسے سورۃ کھف کی تلاوت، استغفار کی کثرت اور نبی کریم ﷺ پر درود بھیجنے۔ اس سے بچہ اچھے ماحول میں پرورش پائیں گے اور پھر آپ کے ساتھ شریک بھی ہو جائیں گے۔

نمازِ عبیدین اور نمازِ استقسام وغیرہ میں کوشش کریں کہ بچے کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ اسی طرح نماز حاجت، استخارہ اور سجدہ شکر میں بھی اس کو اپنے ساتھ رکھیں۔ اس سے اس کے دل میں نماز کی محبت راست ہو جائے گی۔

بچوں میں نماز کی اہمیت و محبت اجاگر کرنے کے لیے والدین کو ہر ممکن وسائل زیر استعمال لانے چاہیں، مثلاً بچوں کے لیے ایسی کتابیں خریدیں جن میں بالصور و صور اور نماز کی کیفیت بیان کی گئی ہو۔ ایسی ویڈیو اور آڈیو کیٹیں خریدیں جن میں وضو اور نماز کی تعلیم دی گئی ہو۔

جب بچہ کچھ ریاضی جان لے اور ضرب کا پہلا اپڑھنے لگے تو اس سے نماز کے لیے فائدہ اٹھائیں، مثال کے طور پر اس سے سوال کریں کہ ایک آدمی دو کعینیں پڑھے، پھر ظہر کی چار کعینیں پڑھے تو اس نے کتنی کعینیں ادا کیں؟

جب وہ زر اڑا ہو جائے تو اس طرح کی مثالیں دی جائیں کہ ایک آدمی کے گھر اور مسجد کے درمیان 500 میٹر کا فاصلہ ہے اور وہ ایک قدم میں 40 سینٹی میٹر کا فاصلہ طے کرتا ہے تو وہ مسجد کی طرف آنے جانے میں کتنے قدم اٹھائے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بد لے میں اسے دس نیکیاں عطا کرے گا تو اسے کتنی نیکیاں حاصل ہوئیں؟

جس طرح ہم بچوں کے مستقبل کے بارے میں منصوبہ بندی کرتے ہیں اسی طرح بچوں کو نماز اور دیگر ارکانِ اسلام کا پابند بنانے کے لیے مل کر بیٹھیں اور غور و فکر کریں اور ایک دوسرے کو اپنے نئے طریقوں اور ترکیبوں سے آگاہ کریں تاکہ ہمارے بچے ہمارے لیے واقعی صدقۃِ حاریہ ہن سکیں۔

سلسلہ:- بہم سے پوچھیے

سوال:

السلام علیکم۔

میرا مشاہدہ ہے کہ بچے جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں ان کے اعتماد یعنی CONFIDENCE میں کمی آجائی ہے خاص طور پر جب وہ میں داخل ہو رہے ہو تے ہیں۔ ایسے میں والدین بچوں کو پر اعتماد بنانے میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟

جواب:

و علیکم السلام۔

بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ بچوں میں مختلف قسم کی تبدیلیاں دیکھنے میں آتی ہیں۔ اور خصوصاً میں اتنج وہ دور ہوتا ہے کہ جب ان کی سوچ تبدیل ہو رہی ہوتی ہے، معاشرے میں ہونے والے بہت سے ٹرینڈز سے وہ آگاہ ہو رہے ہوتے ہیں اور خود کو اور دنیا کو جانے کی جستجو بڑھ رہی ہوتی ہے۔ ایسے میں ان کے اعتماد میں تبدیلی آنعام بات ہے۔ بہت سے بچے اپنے میں اتنج میں اس دور سے گزرتے ہیں جب ان کا سوشل سرکل بڑا ہو رہا ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو دوسروں کی نظر سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور اسی لیے دوسرے لوگ بہت ہی بہتر اور اپنا آپ بہت ہی کم تر نظر آ رہا ہوتا ہے۔ بہت حد تک ممکن ہے کہ ایسے میں بچوں کا اعتماد متاثر ہو۔ لیکن یہ اس عمر کا یک فطری مرحلہ ہے اور اکثر بچوں کا اعتماد وقت کے ساتھ ساتھ بحال ہوتا ہے۔ ایسے میں والدین کے لیے چند تجاویز درج ذیل ہیں۔

- بچوں کے ساتھ اپنے تعلق کو بہتر بنائیں، ان کی سنیں، انہیں اپنی رائے کا اظہار کرنے کا موقع دیں اور ان کو شامل رکھیں۔
- بچوں کو رہنمائی کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے چاہے وہ اس کا اظہار کریں یا ناکریں۔ ان کی تربیت کے لیے اہم ہے کہ آپ ان کی سنیں اور ان کو اظہار خیال کا موقع دیں، معاملات کو ڈسکس کرنے کی دلیل تاکہ آپ بہتر طور پر ان کی تربیت کر سکیں۔

- ان سے بات چیت کریں، دن بھر کا حال جانیں، اسکول میں ان کی کیا روپیں ہے، دن بھر انہوں نے کیا کیا، ان کی کیا دلچسپیاں ہیں اور ان کو کیا ناپسند ہے۔ ویسے تو سب ہی والدین اپنے بچوں کے بارے میں اکثر بتائیں جانتے ہیں لیکن یہ بچوں کا والدین کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا ایک موثر ذریعہ ہے۔
- بچوں کی حوصلہ افزائی کرنے کو اپنا معمول بنالیں۔ اسکول کا کوئی کام ہو یا گھر میں کوئی کام کریں، کسی بھی کام کو لے کر آپ ان کی کوششوں کو تسلیم کریں گے تو ان کا اعتماد بحال ہو گا۔
- اکثر دیکھا جاتا ہے کہ بچوں کی شکل صورت، تد، وزن اور عادات وغیرہ کو لے کر بڑے آپس میں بات چیت کرتے ہیں۔ اس قسم کی منفی گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ اس طرح کی بتائیں ان کے اعتماد کو سخت ٹھیک پہنچاتی ہیں۔

- موبائل اور ٹلوی کے استعمال کو کم سے کم تر کھیں۔ جو کچھ بھی بچے اسکرین پر دیکھ رہے ہوں والدین اس سے آگاہ رہیں کیونکہ اکثر وہ اس طرح کا مواد دیکھ رہے ہو تے ہیں جو ان کے اپنے لیے ہی نقصان دہ ہوتا ہے۔

- کسی غلطی کے نتیجے میں بچوں کو ٹوکنے اور ڈالنے سے گریز کریں۔ اس کے بر عکس ان سے گفتگو کریں، ان کا موقف جانیں اور اس پر بات کریں کہ غلطی کو کیسے درست کیا جاسکتا ہے اور آئندہ اس سے کیسے بچا جاسکتا ہے۔ اس عمر میں بچے اکثر بہت حساس ہوتے ہیں اور سخت رویے ان کے اعتماد کو متاثر کرتے ہیں۔

امید ہے کہ یہ تجاویز آپ کے اور باقی والدین کے لیے مددگار ہوں گی۔ جزاک اللہ

آمد کا مران ذپیٰ میخیگ مینور گگ اینڈ کاؤنسل ڈپارٹمنٹ



کیا آپ اپنے بچے کی تربیت اور اس کے اخلاق و کردار کی درستی کے لیے فکر مند ہیں؟
کیا آپ کسی مستند کاؤنسلر سے رہنمائی چاہتے ہیں؟
کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ بہترین والدین بننے کا اعزاز حاصل کریں!!

بم لارے بیں آپ کے لیے ---

عثمان پبلک اسکول سسٹم کے تربیہ ای میگزین میں ایک ایسا مستقل سلسلہ

بم سے پوچھیے

جو آپ کے سوالات کے تسلی بخش جواب دے گا۔ آج ہی اپنے سوالات اس ای میل ایڈریس پر بھیجیے۔

JOIN OUR
GUIDES

mcd@usman.edu.pk

Our very own Usmanians

You are invited to write your heart out in a special section of

TARBIYAH E-MAGAZINE

Your writing may contain

- Any unforgettable memory of your school..
- Any thing which you like the most about UPSS...
- Any article with authentic knowledge Related to career opportunities, different professions and degrees,
- Any word of advice for your juniors
- Your achievement , Success stories
- And much more...



DEPARTMENT OF
MENTORING & COUNSELLING
USMAN PUBLIC SCHOOL SYSTEM



JOIN OUR
GUIDES

E-MAIL YOUR WRITE UPS AT
mcd@usman.edu.pk